



چھ اضافی کھلاڑی قومی ٹیسٹ کیمپ میں طلب

لاہور، 3 اپریل 2021ء:

قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی نے 10 اپریل بروز ہفتے سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہونے والے قومی ٹیسٹ کیمپ میں چھ اضافی کھلاڑیوں کو طلب کر لیا ہے۔ ان کھلاڑیوں میں نسیم شاہ (سینٹرل پنجاب)، روحیل نذیر (ناردرن)، تاج ولی (بلوچستان)، عرفان اللہ شاہ (خیبرپختونخوا)، وقاص مقصود (سینٹرل پنجاب) اور ثمین گل (خیبرپختونخوا) شامل ہیں۔

اس سے قبل سلیکشن کمیٹی نے ڈویلپمنٹ کی غرض سے قومی وائیٹ بال ٹیم کے تربیتی کیمپ میں بھی سات اضافی کھلاڑیوں کو مدعو کیا تھا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 6 کے دوران بھی 25 کھلاڑیوں کا ایک تربیتی کیمپ نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر لاہور میں منعقد کیا گیا تھا۔

قومی ٹیسٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ 11 سے 20 اپریل تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری رہے گا، جہاں سے قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل 11 کھلاڑی 21 اپریل کو ہرارے روانہ ہوں گے۔

پی سی بی کے کوویڈ 19 پرنٹوکولز کے تحت یہ کیمپ بھی ہائیو سیکور ماحول میں لگایا جائے گا، جہاں اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑیوں اور اسپورٹ اسٹاف کو کوویڈ 19 کے 2 ٹیسٹ کے نتائج منفی آنے کے بعد ہی ہائیو سیکور ماحول میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ کیمپ کے شرکاء کا پہلا ٹیسٹ ان کی اپنی رہائشگاہ اور دوسرا ہوٹل میں لیا جائے گا۔

یہ تربیتی کیمپ نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر کے کوچ کی زیر نگرانی جاری رہے گا، جہاں ثقلین مشتاق (ہیڈ آف پلیئرز ڈویلپمنٹ)، محمد یوسف (بیٹنگ کوچ)، مشتاق احمد (اسپن باؤلنگ کوچ)، عتیق الزمان (فیلڈنگ کوچ) اور عمر رشید (فاسٹ باؤلنگ کوچ) کوچنگ کی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔

قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل 11 کرکٹرز:

عابد علی (سینئرل پنجاب) ، اظہر علی (سینئرل پنجاب) ، فواد عالم (سندھ) ، عمران بٹ (بلوچستان) ، نعمان علی (ناردرن) ، ساجد خان (خیبر پختونخوا) ، سلمان علی آغا (سدرن پنجاب) ، سعود شکیل (سندھ) (فٹنس سے مشروط) ، شاہنواز دہانی (سندھ) ، تابش خان (سندھ) اور زاہد محمود (سدرن پنجاب)۔

پاکستان اور زمبابوے کے مابین 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز 29 اپریل سے ہرارے میں ہوگا۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ 7 مئی سے شروع ہوگا۔

ٹریننگ شیڈول:

11 اپریل:

صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک: ٹریننگ سیشن

12 اپریل:

صبح 9:30 بجے آغاز: سینیریو میچ (پورا دن)

13 اپریل:

صبح 9:30 بجے آغاز: سینیریو میچ (آدھان)

15 اپریل:

صبح 9:30 بجے آغاز: سینیریو میچ (پورا دن)

18 اپریل:

صبح 9:30 بجے آغاز: سینیریو میچ (پورا دن)

19 اپریل:

صبح 9:30 بجے آغاز: سینیریو میچ (آدھان)

20 اپریل:

آپشنل ٹریننگ سیشن

21 اپریل:

ہرارے روانگی

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and promotion of the game of cricket in Pakistan.

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer.

The PCB's mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its winning teams and by providing equal playing opportunities to all.

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and pathways framework, inspiring generations through our women's game, growing and diversifying commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan.

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.



National Team Partners



Domestic Partners



- www.pcb.com.pk
- @therealpcb
- @PakistanCricketBoard
- @PakistanCricketOfficial
- @therealPCB

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4